



سوال

(480) اگر اہل بدعت کے شرکاندیشہ ہو تو کیا کیا جائے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز کا امام اگر بدعتی اور صوفیانہ طریقوں کا پیروکار ہو، خصوصاً تیجانی فرقہ سے متعلق امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے معتقل فقہاء کے اقوال اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے جناب شیخ عبدالرحمن بن یوسف افریقی رحمہ اللہ سابق مدیر دارالحدیث مدینہ منورہ کا ایک رسالہ پڑھا ہے جس کا نام ہے ”الانوار الرحمانیۃ فی ہدایۃ الفرقۃ التیجانیۃ“ اس سے معلوم ہوا کہ اس جماعت کے عقائد درست نہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھائے (آمین)۔ وہ قرآن مجید پر ایمان لانے اسکی تصدیق کرنے اور اس کے رسول مصطفیٰ ﷺ کی سنت کے اتباع کی نسبت شرک اور گمراہی سے زیادہ قریب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تیجانی طریقہ پر عمل کرنے والے بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اگر شہر میں کوئی مسجد نہ ہو جس کا امام بدعتی نہ ہو تو کیا ایک مسلمان گھر میں اپنے افراد خانہ کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ مسجد میں جب تیجانی بدعتی امام نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے تو اس مسجد میں الگ جمعیت کرائی جائے؟ جب کہ اس کا نتیجہ مسلمانوں میں افتراق اور ذہنی انتشار کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تیجانی فرقہ کفر بدعت اور گمراہی میں تمام فرقوں سے بڑھا ہوا ہے لہذا ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو ان کے طریقہ سے تعلق رکھتا ہو اور مسلمان ایسا امام تلاش کر سکتا ہے جو تیجانی وغیرہ فرقوں میں سے نہ ہو، جن کی عبادتیں اور اعمال حضرت محمد ﷺ کی متابعت سے خالی ہیں۔ اگر غیر بدعتی نہ لے تو مسلمانوں کی کسی مسجد میں جماعت کرائی جائے بشرطیکہ فقہ کا اور بدعتوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر رہائش ایسے علاقے میں ہو جہاں اہل بدعت کا زور ہے تو اپنے گھر میں یا کسی جگہ جماعت قائم کر لیں جہاں تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہ ہو اور اگر یہ ممکن ہو کہ آپ اپنی رہائش کسی ایسے شہر میں منتقل کر لیں جہاں سنت پر عمل کیا جاتا ہو اور بدعتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہو، پھر آپ کو ضرور وہاں منتقل ہو جانا چاہیے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام



محدث فتویٰ